



## آئی سی سی انڈر 19 ورلڈکپ سے قبل عامر علی اور حیدر علی کے عزائم بلند

- پہلے وارم اپ میچ میں فتح سے ایونٹ کا آغاز کرنا خوش آئند ہے،  
نوجوان کرکٹرز
- پاکستان اپنا دوسرا وارم اپ میچ منگل کو سری لنکا کے خلاف  
کھیلے گا

پریٹوریا، 13 جنوری 2020ء:

آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2020 میں پاکستان اپنے سفر کا آغاز جیت سے کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے اتوار کے روز ایونٹ کے پہلے وارم اپ میچ میں نائجیریا کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ دو مرتبہ کی چیمپئن پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم ایونٹ میں اپنے دوسرے وارم اپ میچ میں منگل کو سری لنکا کے خلاف پریٹوریا میں مدمقابل آئے گی۔

پہلے وارم اپ میچ میں قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے بائیں ہاتھ کے اسپنر عامر علی اور اوپننگ بیٹسمین حیدر علی نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، عامر علی نے میچ میں 6 اوورز میں 12 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔

### عامر علی:

نوجوان اسپنر عامر علی کا کہنا ہے کہ وہ پہلے وارم اپ میچ میں اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ عامر علی نے کہا کہ میچ کے آغاز سے قبل کپتان روحیل نذیر نے انہیں واضح پلان دیا جس پر عمل کر کے انہوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

عامر علی پر امید ہیں کہ قومی انڈر 19 ٹیم دوسرے وارم اپ میچ میں سری لنکا

کے خلاف کھیل کے تینوں شعبوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔  
نوجوان اسپنر نے کہا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں تربیتی کیمپ کے دوران  
کوچز نے جو مفید مشورے دئیے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔

110 رنز کے تعاقب میں قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے اوپنر حیدر علی 38  
گیندوں پر 70 رنز بنا کر ریٹائرڈ ہو گئے تھے، اوپنر کی اننگز میں 8 چوکے اور  
4 چھکے شامل تھے۔

### حیدر علی:

قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان حیدر علی کا کہنا ہے کہ گذشتہ سال  
دورہ جنوبی افریقہ کے باعث اسکواڈ میں شامل بیشتر کھلاڑیوں کو اس خطے  
کی پجز کا اندازہ ہے۔ نوجوان اوپنر نے کہا کہ وہ ایونٹ کے آئندہ میچوں میں  
بھی اپنے مخصوص انداز میں جارحانہ بیٹنگ کرنے کو ترجیح دیں گے۔ حیدر  
علی پر امید ہیں کہ وہ ایونٹ کے دوران اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر کے قومی  
انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی کامیابیوں میں اہم کردار ادا کریں گے۔

اسکواڈ (یکم ستمبر 2000 یا اس کے بعد پیدا ہونے والے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا  
جاسکتا تھا):

اوپنرز: عبدالواحد بنگلزئی (کوئٹہ)، حیدر علی (راولپنڈی) اور محمد شہزاد  
(ملتان)۔

مڈل آرڈرز: محمد حارث (پشاور)، محمد حریرہ (سیالکوٹ) اور محمد عرفان خان  
(لاہور)۔

وگٹ کیپر: روحیل نذیر (کپتان)۔

آلراؤنڈرز: عباس آفریدی (پشاور)، فہد منیر (لاہور) اور قاسم اکرم (لاہور)۔

اسپنرز: عامر علی (لاڑکانہ) اور آرش علی خان (کراچی)۔

فاسٹ باؤلرز: عامر خان (پشاور)، محمد وسیم جونیئر (شمالی وزیرستان) اور طاہر  
حسین (ملتان)۔

## ٹیم منیجمنٹ:

اعجاز احمد ( ہیڈ کوچ کم منیجر)، راؤ افتخار انجم (باؤلنگ کوچ)،  
عبدالمجید (اسسٹنٹ کوچ)، حافظ نعیم الرسول (فزیو تھراپسٹ)، صبور احمد (ٹرینر)  
، عثمان ہاشمی (اینالسٹ) ، عماد حمید (میڈیا منیجر) اور کرنل (ر) عثمان رفعت  
انوری (سیکورٹی منیجر)۔

## شیڈول:

19 جنوری 2020: پاکستان بمقابلہ اسکاٹ لینڈ  
22 جنوری 2020: پاکستان بمقابلہ زمباوے  
24 جنوری 2020: پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش  
9 فروری 2020: فائنل

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**  
Editor – Urdu Content  
Media and Communications  
E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)  
M: +92 (0) 345 474 3486  
W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)